



## سوال

(447) پیر کی بیعت کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شاہدہ سے غلام اللہ سوال کرتے ہیں کسی شخص کے متعلق حتیٰ فیصلہ دینا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ فلاں پیر کو دیکھ لے ایسے شخص کی بیعت کرنا شرعاً کیسا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جنتی ہونے کی بشارت ضروری ہے جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی معین شخص کے متعلق جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے البتہ جن کے متعلق قرآن و حدیث میں نص آچکی ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اور ابولسب کا جہنمی ہونا وغیرہ یوں تو کہا جاسکتا ہے کہ فلاں قسم کے اعمال کرنے والا جنتی یا جہنمی ہے لیکن شخصی طور پر تعین جائز نہیں ہے نیز بیعت کی کئی اقسام ہیں ان میں آج بیعت جہاد تو کی جاسکتی ہے لیکن راجح الوقت بیعت تصوف کا ثبوت سلف صالحین سے نہیں ملتا لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے سوال ذکر کردہ بیعت تصوف سے ہے اس سے بچنا چاہیے۔

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 456